

عزیز خاندانوں،

ہیملٹن-وینٹ ورث ڈسٹرکٹ سکول بورڈ (HWDSB) (Hamilton-Wentworth District School Board) میں، ہم رکاوٹوں کی نشاندہی کرنے اور ان کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں تاکہ ہم تمام طلباء کو معاون، جامع، اور باعزت تعلیمی ماحول پیش کر سکیں۔

اپنے طلباء کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، ہم ایک رضاکارانہ اور خفیہ مردم شماری منعقد کریں گے۔ اپریل 2021 میں، ہم سب شمار ہوتے ہیں: ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی (HWDSB) طلباء کی مردم شماری 2021 (We All Count: HWDSB Student Census 2021) کو کھولا گیا اور نظامی رکاوٹوں کی شناخت اور ان کو دور کرنے کے لیے طلباء کی شناختوں (نسل، جنس وغیرہ) کے بارے میں سوالات پوچھے گئے۔ . عالمی وباء اور جوابات کی کم شرح کی وجہ سے، ہم تمام طلباء کو مردم شماری مکمل کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے دوبارہ طلباء کی مردم شماری (اسٹوڈنٹ سینسس) شروع کر رہے ہیں۔ یہ 29 نومبر، 2021 سے لے کر 16 دسمبر، 2021 تک ہو گا۔

بہت سے سکول بورڈز نے طلباء کی مردم شماری (اسٹوڈنٹ سینسس) منعقد کی ہے۔ درحقیقت، انسداد نسل پرستی ایکٹ، 2017 (Anti-Racism Act, 2017) اور اونٹاریو کے ایجوکیشن ایکویٹی ایکشن پلان (Ontario's Education Equity Action Plan) کے تحت اسکول بورڈز کو یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے اور اسے رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ: ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی (HWDSB) کے ایکویٹی ایکشن پلان میں بھی ایک ترجیحی منصوبہ ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ کسی شخص کی شناخت کے بارے میں پوچھنا غیر آرام دہ ہو سکتا ہے، اور ہم حساسیت کے ساتھ ایسا کریں گے۔ ہم نے طلباء، خاندانوں، عملے اور کمیونٹی کے اراکین سے مشورہ کیا تاکہ اس مردم شماری سے ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی (HWDSB) کو ایکویٹی، طلباء کی کامیابی اور فلاح و بہبود کے لیے ثبوت سے باخبر فیصلے کرنے میں مدد ملے۔

یہ کیسے ہو گا؟

کنڈرگارٹن سے گریڈ 4 کے طلباء: والدین کے پورٹل (پیرنٹ پورٹل) میں ایک فارم شامل کیا جائے گا۔ والدین اور سرپرست پورٹل پر جا سکتے ہیں، فارم کھول سکتے ہیں، اور اس مقام پر طلباء کی مردم شماری مکمل کر سکتے ہیں۔ پرنٹ کی ہوئی کاپیاں آپ کے بچے کے استاد سے درخواست کرنے پر دستیاب ہونگی۔ برائے مہربانی فی طالب علم صرف ایک مردم شماری فارم مکمل کریں (ان لائن یا پرنٹ کر کے)۔

گریڈ 5 سے 12 - شخصی طور پر (ان پرسن) اور دور سے سیکھنے والے (ریموٹ لرنرز): ہم، ایک بار پھر، گریڈ 5 سے 12 کے طلباء کو ایک محفوظ لنک ای میل کے ذریعے بھیجیں گے، تاکہ وہ اساتذہ کی مدد سے کلاس کے دوران مردم شماری کا فارم آن لائن مکمل کر سکیں۔ وہ طلباء جن کے والدین/سرپرستوں نے پہلے درخواست کی تھی کہ وہ مردم شماری میں حصہ نہیں لیں گے انہیں ای میل نہیں موصول ہوگی۔

یہ کیا پوچھتا ہے؟

ایک طالب علم کی عمر پر منحصر ہو کر، مردم شماری کے سوالات طالب علم کی زبانوں، سودیشی (انڈیجنس) شناخت، قومیت، نسل، مذہب، صنفی شناخت، جنسی رجحان، معذوریات یا صلاحیتیں، جائے پیدائش اور شہریت/ہجرت کی حیثیت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔

ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی (HWDSB) طلباء کی ذاتی معلومات کی حفاظت کیسے کرے گا؟

ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی (HWDSB) طلباء اور خاندانوں کے بارے میں معلومات جمع کرتے وقت تخلیہ اور رازداری کی اعلیٰ ترین سطحوں کے لیے پرعزم ہے۔ طلباء کی مردم شماری کا ڈیٹا انسداد نسل پرستی ایکٹ، ایس۔ او۔ (Anti-Racism Act, 2017)

(15, c. 2017, S.O. 2017, c. 2017, S.O. 2017, c. E.2) 2، ایجوکیشن ایکٹ آر. ایس. او. 1990 سی. ای. 2 (Education Act, R.S.O. 1990, c. E.2) کے اختیار کے تحت جمع کیا جاتا ہے اور میونسپل فریڈم آف انفارمیشن اینڈ پروٹیکشن آف پرائیویسی ایکٹ، آر. ایس. او. 1990 سی. ایم. 56 (Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.O. 1990, c. M.56) کی تعمیل کرتا ہے۔

طلباء کی مردم شماری خفیہ ہے، لیکن یہ گمنام نہیں ہے۔ انفرادی طالب علم کے جوابات کو تجزیہ کے لیے اکٹھا کیا جائے گا تاکہ کسی بھی طالب علم کی انفرادی معلومات کی شناخت کبھی بھی نہ ہو سکے۔ جمع کردہ جوابات کو ایک محفوظ، خفیہ ڈیٹا بیس میں محفوظ کیا جائے گا اور صرف ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی ریسرچ اینڈ اینالیٹکس (HWDSB Research & Analytics) کے مجاز عملہ کے ذریعے ہی ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی (HWDSB) طلباء کے رجحانات کی نشاندہی اور خلاصہ کے لیے رسائی حاصل کی جائے گی۔

کیا یہ لازمی ہے؟

مردم شماری مکمل کرنا رضاکارانہ ہے۔ تاہم، ہم طلباء سے شرکت کے لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے طلباء کی آبادی کی درست تصویر مل سکے۔ جواب (رسمی) کی ایک اعلیٰ شرح رکاوٹوں کی نشاندہی کرنے، حکمت عملی بنانے، اور ہمارے پروگراموں اور وسائل کے ذریعے طالب علم کی کامیابی اور بہبود کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں ہماری مدد کرے گی۔ وہ طلباء جنہوں نے پہلے ہی حصہ نہ لینے کا فیصلہ لیا ہے، انہیں دوبارہ کھلنے پر سروے کا لنک موصول نہیں ہوگا۔ وہ خاندان جو نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ حصہ لے اور جنہوں نے اس نے پہلے حصہ نہ لینے کا فیصلہ نہیں کیا تھا وہ research@hwsb.on.ca پر ای میل کر سکتے ہیں۔

سوالات؟

ہم مردم شماری کی تیاری کے دوران سوالات کو مدعو کرتے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.hwsb.on.ca/weallcount پر مزید جانیں، جہاں آپ کو مردم شماری کے بارے میں اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs) ملیں گے۔ آپ ہماری طلباء کی مردم شماری ٹیم سے census@hwsb.on.ca پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔

ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی (HWDSB) کو ذمہ دارانہ طریقے سے ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مدد کرنے کا شکریہ، تاکہ ہم تعلیمی نظام میں مزید مساوی نتائج پیدا کر سکیں۔

مخلصانہ،



پال ڈینومے (Paul Denomme)
سپرٹنڈنٹ آف سٹوڈنٹ اچیومنٹ (Superintendent of Student Achievement)
ایکوٹی اینڈ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ (Equity and Student Engagement)



مینی فیگریڈو (Manny Figueiredo)
ڈائریکٹر آف ایجوکیشن (Director of Education)